

Retiring from Work کام سے سبکدوشی

Joshua 14.10-12 And now, behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these forty and five years, even since the Lord spoke this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness: and now, lo, I am this day fourscore and five years old. As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me: as my strength was then, even so is my strength now, for war, both to go out, and to come in. Now therefore give me this mountain

یشوع 14 سے 12

اور اب دیکھ جب سے خداوند نے یہ بات موسیٰ سے کہی تب سے ان پینتالیس برسوں تک جن میں بنی اسرائیل بیابان میں آوارہ پھرتے رہے خداوند نے مجھے اپنے قول کے مطابق جیتا رکھا اور اور آج کے دن بھی میں ویسا ہی ہوں جیسا اس دن ¹اب دیکھ میں آج کے دن پچاسی برس کا ہوں۔ تھا جب موسیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور جنگ کے لئے اور باہر جانے اور لوٹنے کے لئے جیسی سو یہ پہاڑی جس کا ذکر خداوند نے اس ²قوت مجھ میں اس وقت تھی ویسی ہی اب بھی ہے۔ روز کیا تھا مجھ کو دے دے کیونکہ تو نے اس دن سن لیا تھا کہ عناقیم وہاں بستے ہیں اور وہاں کے شہر بڑے اور فصیل دار ہیں یہ ممکن ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہو اور میں ان کو خداوند کے قول کے مطابق نکال دوں۔

Psalms 92 12-15 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing; To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

زبور 92 تا 15

صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہو گا۔ وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھیگا۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہونگے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہونگے۔ وہ تروتازہ اور سرسبز رہینگے۔ تاکہ واضح کریں کہ خدا راست ہے۔ وہی میری چٹان ہے اور اُس میں ناراستی نہیں۔

Isaiah 46.4 And even to your old age I am he; and even to white hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.

یسعیاہ

میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پہرونگا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہونگا۔ میں ہی لے چلونگا اور میں ہی رہائی دونگا۔

Philippians 1.20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.

فلیپی 1.20

چنانچہ میری دلی آرزو اور اُمید یہی ہے کہ میں کسی بات پر شرمندہ نہ ہوں بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اُسی طرح اب بھی ہو گی خواہ میں زندہ رہوں خواہ مرؤں۔

John 15 7-9 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

یوحنا 15.7 تا 9

اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اب اُسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اُس سے کہا اے خداوند! باپ کو ہمیں دیکھا۔ یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اُس سے کہا اے فلپس! اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیونکر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دیکھا؟۔